

تعلقات عامہ دفتر
جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

October, 18 2022

پریس ریلیز جامعہ ملیہ اسلامیہ این سی سی نوجوان سارتھک شرما او ٹی اے، چنئی کے لیے منتخب

این سی سی نوجوان سارتھک شرما نے حال ہی میں ایس ایس بی انٹر ویو پاس کر کے آفیسر س ٹریننگ اکیڈمی (او ٹی اے) چنئی میں باونویں کورس (این سی سی اسپیشل انٹری) میں مورخہ پندرہ اکتوبر کو جوائن کیا ہے۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ قانون کا سابق طالب علم (سال دوہزار سترہ تا دوہزار بائیس بیچ) کے طالب علم رہ چکے ہیں۔

سارتھک شرما نے، چار دہلی بن این سی سی کے تحت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سینئر ڈویژن (آرمی) میں بطور این سی سی نوجوان اپنا نام لکھوا یا تھا۔ جامعہ میں قانون کی پڑھائی کرتے ہوئے انہوں نے 'بی' اور 'سی' سرٹیفکٹ کورس کیا تھا۔ انہوں نے این سی سی سرٹیفکٹ 'سی' کے لیے سال دوہزار اکیس میں منعقدہ امتحان میں اے گریڈ حاصل کیا تھا۔

سارتھک شرما نے یونیورسٹی کی طرف سے این سی سی کی دی جانے والی تربیت میں ہمیشہ سے دلچسپی لی تھی۔ وہ ہفتہ وار ہونے والی پریڈ میں باقاعدگی سے شامل ہوتے تھے اور این سی سی کی دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ سارتھک شرما میں بات چیت کی صلاحیت اچھی تھی جس کا مختلف لگنے والے کیمپوں میں مظاہرہ کرتے تھے۔ سارتھک نے سالانہ تربیتی پروگراموں کے علاوہ نرمدا ٹریننگ کیمپ، ایک بھارت سریشٹھ بھارت (ای بی ایس بی) میں بھی حصہ لیا تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی یوم تاسیس کیمپ میں بھی حصہ لیا تھا۔

پروفیسر نجمہ اختر، شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے انڈین آرمی میں سارتھک شرما کے منتخب ہونے پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور ان تمام این سی سی کے اہل کاروں کو مبارک باد دی ہے جنہوں نے ان کی تربیت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اجاگر کیا کہ این سی سی نوجوانوں کی تربیت کے لیے یونیورسٹی میں عمدہ سہولیات ڈھانچہ موجود ہے۔

تعلقات عامہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی

Twitter handle: @jmiu_official, Facebook:)

@jmiofficial, instagram:

@jamiamilliaislamia_official, linkedin:

@jamiamilliaislamia and You Tub

MediaOffice, Jamia Millia Islamia)